

برامپٹن میں ریممبرنس ڈے 2019

برامپٹن، آن (30 اکتوبر 2019) – اس سال ریممبرنس ڈے مورخہ 11 نومبر بروز پیر کو منایا جائے گا۔ لہذا، اس دن سٹی کی بہت سی خدمات دستیاب نہیں ہوں گی یا معمول سے کم کی سطح پر کام کریں گی۔

برامپٹن سٹی ہال 11 نومبر کو بند رہے گا۔ شہری اس وقت کے دوران خود آ کر شادی کے لائسنس کے لیے درخواست دینے، عدالتی شادی کی تقریبات بک کرنے، غلط پارکنگ پر جرمانہ بھرنے، پرمٹس کے لیے درخواست دینے یا کاروباری لائسنسز کی تجدید کروانے یا درخواست دینے کے قابل نہیں ہوں گے۔

کئی خدمات معمول کے مطابق اپنا کام کرنا جاری رکھیں گی، بشمول فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز اور سٹی آف برامپٹن ہائی لاء انفورسمنٹ۔

رہائشی کسی بھی سوال کے لیے 311 یا 905.874.2000 پر کال (برامپٹن کے باہر سے) یا 311@brampton.ca پر ای میل کر سکتے ہیں۔ سٹی آف برامپٹن اور ریجن آف پیل کے کسی بھی معاملے بشمول پارکنگ، کوڑا کرکٹ اٹھانے، تفریحی پروگراموں اور دیگر کاموں کے لیے ہم 24/7 دستیاب ہوں گے۔

ریممبرنس ڈے 2019 کی تقریبات

رہائشیوں اور سیاحوں کو دعوت دی جاتی ہے کہ وہ ریممبرنس ڈے کے سلسلے میں شہر بھر میں منعقد ہونے والی تقریبات میں شرکت کے لیے سٹی آف برامپٹن اور رائل کینیڈین لیگون برانچز 15 اور 609 میں تشریف لائیں۔

کینڈل لائیٹ سروس

اتوار، 3 نومبر | شام 7:30
گیج پارک، ویٹرن اسٹیجو
45 مین اسٹریٹ ساؤتھ

پریڈ اور یادگاری سروس

اتوار، 10 نومبر | صبح 10:55
چنگواکوسی پارک، میموریل پلازہ
9050 برامیلا روڈ

سن رائز سروس

پیر، 11 نومبر | صبح 7:55
میڈویل سیمٹری چپیل
7732 میوس روڈ

پریڈ اور یادگاری سروس

پیر، 11 نومبر | صبح 10:55
کین ویلینز اسکوائر، سینوٹیف
2 ویلنگٹن اسٹریٹ ویسٹ

ریممبرنس ڈے کی تقریبات اور سڑکوں کی بندش کی مکمل فہرست کے لیے [یہاں کلک کریں](#)۔

برامپٹن ٹرانزٹ

ریممبرنس ڈے ویکینڈ کے موقع پر برامپٹن ٹرانزٹ درج ذیل شیڈول کے مطابق چلے گی۔

- جمعہ، 8 نومبر: ویک ڈے سروس
- ہفتہ، 9 نومبر: سیچرڈے سروس
- اتوار، 10 نومبر: سیچرڈے/ہالیڈے سروس
- پیر، 11 نومبر (ریممبرنس ڈے): ویک ڈے سروس

تمام ٹرمینلز پر کسٹمر سروس کاؤنٹرز کھلے رہیں گے۔ کلارک اور سینڈل ووڈ سہولت گاہیں ریممبرنس ڈے پر بند رہیں گی۔

سابقہ فوجی ریممبرنس ڈے پر برامپٹن ٹرانزٹ پر بلا معاوضہ سفر کر سکیں گے۔ سابقہ فوجی کی شناخت "وار ویٹرن پاس" یا درج ذیل میں سے کسی چیز سے کی جا سکتی ہے: میڈلز، فوجی ٹوپی، یونیفارم، جیکٹ یا شناخت کے دیگر طریقے

روٹ اور شیڈول کی معلومات کے لیے 905.874.2999 پر کال کریں یا www.bramptontransit.com ملاحظہ کریں۔ اگلی بس کے براہ راست اوقات کی معلومات کے لیے اپنے اسمارٹ فون یا دیگر موبائل ڈیوائس پر nextride.brampton.ca ملاحظہ کریں۔ سفر کی منصوبہ بندی کے دیگر ٹولز کے لیے www.triplinx.ca گوگل میپس ملاحظہ کریں۔

برامپٹن ریکرینیشن

ریممبرنس ڈے ویکینڈ کے موقع پر زیادہ تر تفریحی سہولت گاہیں کھلی رہیں گی۔ ڈراپ ان پروگرام کے تجدید شدہ شیڈولوں اور کام کے گھنٹوں کے بارے میں جاننے کے لیے اپنے مقامی تفریحی سنٹر یا 311 پر کال کریں یا www.brampton.ca/recreation ملاحظہ کریں۔ شہر کا ریکرینیشن ایڈمنسٹریشن آفس ریممبرنس ڈے پر بند رہے گا۔

برامپٹن اینیمل سروسز

برامپٹن اینیمل شیلٹر ریممبرنس ڈے پر بند رہے گا۔ مزید معلومات کے لیے 905.458.5800 پر یا 311 پر کال کریں یا www.brampton.ca/animalservices ملاحظہ کریں۔

برامپٹن لائبریری

برامپٹن لائبریری کی تمام شاخیں ریممبرنس ڈے پر بند رہیں گی۔

اپنی مطلوبہ چیزیں آن لائن طور پر بُک کریں اور کسی بھی برانچ پر واپس کر دیں۔ اپنے مفت لائبریری کارڈ کے ذریعے کسی بھی وقت ای بُکس اور مزید بہت کچھ سے لطف اندوز ہوں۔ مزید معلومات کے لیے www.bramptonlibrary.ca ملاحظہ کریں یا 905.793.4636 پر کال کریں۔

-30-

میڈیا کنٹیکٹ

مونیکا ڈوگال

کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

اسٹریٹیجک کمیونیکیشن

سٹی آف برامپٹن

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca